

# COVID-19 کا علاج دستیاب ہے

COVID-19 کا علاج آپ کے جسم میں وائرس کی مقدار کو کم کر سکتا ہے، علامات میں کمی لا سکتا ہے اور آپ کو اسپتال میں داخل ہونے سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ علاج اس وقت سب سے زیادہ فائدہ مند رہتا ہے جب آپ اس کو بیمار پڑنے کے بعد جلد کروا لیں، لہذا اگر آپ کو علامات درپیش ہیں تو فوری ٹیسٹ کروائیں۔

**اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے تو علاج کے آپشنز کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کو یا 212-268-4319 پر کال کریں۔**

## میں علاج کیسے کروا سکتا ہوں؟

اگر آپ کا ٹیسٹ مثبت آئے تو اپنے فراہم کنندہ کو فوراً کال کریں۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کا فراہم کنندہ منہ کے ذریعے لی جانے والی اینٹی وائرل گولیوں کے ساتھ علاج تجویز کر سکتا ہے یا علاج کے دیگر آپشنز تلاش کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

اس کے علاوہ آپ:

- [nyc.gov/covidtest](https://www.nyc.gov/covidtest) پر جا کر یا 212-268-4319 یا 311 پر کال کر کے NYC Health + Hospitals کی "Test & Treat" (ٹیسٹ اور علاج) کی سائٹ تلاش کر سکتے ہیں۔
- [aspr.hhs.gov/TestToTreat](https://www.aspr.hhs.gov/TestToTreat) پر جا کر فیڈرل "Test to Treat" (علاج کے لیے ٹیسٹ) لوکیٹر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

## علاج پر کتنا خرچہ آتا ہے؟

منہ کے ذریعے لی جانے والی اینٹی وائرل گولیوں سے کیا جانے والا علاج اس وقت مفت ہے۔ دیگر اقسام کے علاج پر لاگت آ سکتی ہے۔ لاگت میں شیئرنگ کے بارے میں علاج کی سہولت گاہ اور اپنے ہیلتھ پلان سے معلوم کریں۔ NYC Health + Hospitals ترک وطن کی حیثیت یا ادائیگی کرنے کی صلاحیت سے قطع نظر نگہداشت فراہم کرتا ہے۔

## کس قسم کا علاج دستیاب ہے؟

منہ کے ذریعے لی جانے والی اینٹی وائرل گولیاں (پانچ دن کے لیے لی جانے والی گولیاں) علاج کی سب سے عام قسم ہیں۔ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ جن میں علامات پچھلے پانچ دنوں میں شروع ہوئی ہیں، وہ اہل ہونے کی صورت میں منہ کے ذریعے لی جانے والی اینٹی وائرل گولیوں کے ساتھ علاج کروا سکتے ہیں۔

12 سال سے کم عمر کے لوگ یا وہ لوگ جو منہ کے ذریعے اینٹی وائرل گولیاں نہیں لے سکتے ہیں وہ دوسری قسم کا علاج کروا سکتے ہیں۔

## علاج کے لیے کون اہل ہے؟

وہ لوگ جن کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے (کسی بھی قسم کے ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے) اور ان میں علامات موجود ہیں، وہ علاج کے اہل ہو سکتے ہیں۔

علاج کے بارے میں بات کریں، خاص طور پر اگر آپ:

- کی عمر 65 سال یا زیادہ ہے
- کو بنیادی صحت کا کوئی عارضہ درپیش ہے، جیسے موٹاپا، ذیابیطس، دل کے عوارض، پھیپھڑوں کے عوارض، گردے کی بیماری، کمزور مدافعتی نظام، یا حاملہ ہیں

اگر آپ کوئی دوائیں لے رہے ہیں تو اپنے فراہم کنندہ کو بتائیں، کیونکہ اس سے اس بات پر اثر پڑ سکتا ہے کہ آپ کو کون سی قسم کا علاج ملنا چاہیے۔



ویکسینیشن اپنی، اپنے خاندان اور اپنی کمیونٹی کی COVID-19 سے حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ویکسینیشن سائٹ تلاش کرنے کے لیے [nyc.gov/vaccinefinder](https://www.nyc.gov/vaccinefinder) پر جائیں یا 877-829-4692 پر کال کریں۔